

تعلقات عامہ دفتر

جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی

June 24, 2022

پریس ریلیز

جامعہ ملیہ اسلامیہ کو ڈبلیو سی ڈی ایم ڈزاسسٹر رسک ریڈکشن ایکسی لینس ایوارڈ ملا

یہ امر باعث افتخار ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ (ناک سے اے پلس پلس توثیق شدہ مرکزی یونیورسٹی) کو آفات سماوی سے متعلق بندوبست کے مختلف شعبوں میں غیر معمولی خدمات کی وجہ سے ڈزاسسٹر رسک ریڈکشن ایکسی لینس ایوارڈ (ڈبلیو سی ڈی ایم ڈی آر آر ایوارڈ) ملا ہے۔ ایک اہم تنظیم ورلڈ کانگریس آن ڈزاسسٹر مینجمنٹ (ڈبلیو سی ڈی ایم) نے جامعہ کو یہ ایوارڈ انڈیا انٹرنیشنل سینٹر (آئی آئی سی) میں مؤرخہ بائیس جون دوہزار بائیس کو منعقدہ ڈبلیو سی ڈی ایم ڈی آر آر ایوارڈ تقریب میں دیا تھا۔

پروفیسر نجمہ اختر، شیخ الجامعہ، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور پروفیسر ناظم حسین اور الجعفری نے پروگرام کے مہمان خصوصی جناب جی کرشنا ریڈی، عزت مآب مرکزی وزیر برائے سیرو سیاحت، تہذیب و بہبود برائے شمال مشرقی خطہ، حکومت ہند کے دست مبارک سے یہ ایوارڈ لیا۔ اُسے دن وقوع پذیر ہونے والی آفات سماوی اور دنیا بھر میں قدرتی آفات کے بحران سے بہتر طور پر نمٹنے کے لیے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں جو تحقیق، تدریس اور تربیت دی جاتی ہے اسی کے اعتراف میں یہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔

ایوارڈ تقریب میں پروفیسر ابراہیم، ڈین، فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹکنالوجی، پروفیسر عتیق الرحمان، چیف پراکٹر اور پروفیسر سراج الدین احمد، انچارج شعبہ ماحولیاتی سائنسز جامعہ ملیہ اسلامیہ نے بھی شرکت کی۔ پروگرام میں بڑی تعداد میں قومی و بین الاقوامی ممتاز شخصیات، سائنس دان، محققین، پالیسی ساز، ڈاکٹر اور وکلا بھی موجود تھے۔

ڈبلیو سی ڈی ایم، ڈی ایم آئی سی ایس کی ایک انوکھی پہل ہے۔ اس میں وہ دنیا بھر سے تحقیق سے وابستہ لوگوں کو، پالیسی سازوں کو اور ڈاکٹروں کو ڈزاسسٹر رسک مینجمنٹ کے مختلف صبر آزما مسائل و معاملات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں۔ علم الانسان اور قدرتی آفات بندوبست سے متعلق یہ سب سے بڑی تنظیم ہے۔

تعلقات عامہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی